

کرونا وائرس ایمرجنسی - فیرینزے
میں کیا کر سکتا ہوں؟ - اپ ڈیٹ 17/03/20

- گھر میں رہنا چاہیے۔
- سڑک اور پارکوں میں نہیں جانا چاہیے۔
- باہر نکلا جاسکتا ہے صرف: کام کے لئے، صحت کی وجوہات کے لئے اور ضرورت کی صورت میں: جیسے خریداری کے لئے (جہاں تک ممکن ہو گھر کے قریب)، اہل خانہ کی مدد کے لئے (بوڑھے اور بیمار، لیکن ہمیشہ اپنی حفاظت کے لئے ماسک کے ساتھ) اور گھریلو جانوروں کو باہر (گھر کے بہت قریب) یا جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لئے۔
- باہر نکلنے کے لئے آپ کے پاس بیان حلفی ہونا چاہئے جو کہ Ministero dell'Interno کی ویب سائٹ پر اس لنک پر مل سکتا ہے

<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf>

- بیان حلفی پولیس اپنے پاس لے گی اور جو بیان دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گی۔
- آپ کو دوسرے لوگوں سے کم سے کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔
- اگر آپ کو بخار ہے (37،5 سے اوپر) تو گھر پر رہیں، باقی لوگوں سے تعلقات سے گریز کریں اور اپنے فیملی ڈاکٹر یا بچوں کے ڈاکٹر کو کال کریں۔ آپ کو ہسپتال نہیں جانا چاہئے۔
- نیا کرونا وائرس کے متعلق معلومات لینے کے لئے علاقائی مفت نمبر 800 55 60 60 پر کال کریں، 1 ملائیں، جو کہ پیر تا جمعہ ایکٹو ہے، 9 بجے سے 18 بجے تک

توجہ فرمائیے!!!

اگر آپ ان ممانعتوں کا احترام نہیں کرتے، تو آپ جرم کرتے ہیں، مجرمانہ کوڈ کے آرٹیکل 650 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یعنی "اتھارٹی کے اقدام کی عدم تعمیل کرنا"؛ مزید سنگین صورتوں میں آپ کو تعزیرات "عوامی صحت کے خلاف قابل جرم جرائم" کے آرٹیکل 452 کی خلاف ورزی کا خطرہ ہوگا جو عوامی صحت کے لئے خطرہ پیدا کرنے کے قابل ہر طرح کے اقدامات کا تعاقب کرتے ہیں۔

آپ اپنے ذاتی مجرمانہ ریکارڈ میں 3 ماہ تک گرفتاری، 206 یورو جرمانہ اور جرم کا ریکارڈ رکھنے کا خطرہ رکھتے ہیں۔ لہذا، یہ فوجداری ریکارڈ کو داغدار کر سکتا ہے۔

یاد رکھیں کہ کام، شہریت کی درخواست اور پی ایس سی ای (ای کارٹا دی سوچورنو) جیسے بہت سے سیاق و سباق میں مجرمانہ ریکارڈ کی ضرورت ہوتی ہے،...